

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اے ایمان والو! اگر کوئی بدکار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اجھی طرح تحقیق کر لیا کرو  
(الْجِرَأَتُ أَيْتَ نَفْسَكُ)

# رجُبَّ کے کونڈوں پر ایک نظر



چلاڑخانہ

خطیب مدرس حاج سید احمد الرشد



DAR-UL-TAQWA

اے ایمان والو! اگر کوئی بدکار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو  
(الجتن آئندہ)

# رجحہ کے کونڈوں پر لائک نظر

تألیف

ابو جنید محمد صادق خلیل (مری)

مقدمہ

ڈاکٹر ابو جابر عبد اللہ دامانوی حفظہ اللہ

لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ كَرَأْيٌ

## جملہ حقوق بحق محفوظ ہیں

نام کتاب : رجب کے کوئی دل پر ایک نظر  
 تالیف : ابو جنید محمد صادق خلیل (مری)  
 پیش لفظ : محمد سلیمان ساجد (مری)  
 مقدمہ : ڈاکٹر ابو جابر عبد اللہ دامانوی حفظہ اللہ  
 اشاعت اول : رمضان المبارک ۱۴۲۳ھ بہ طابق دسمبر 2002ء  
 قیمت : روپے  
 شائع کردہ : 7542251 حاصلۃ التقویٰ سکریجی فون:

(ادارہ کی مطبوعات مندرجہ ذیل پتوں سے مل سکتی ہیں)

- ☆ الدارالراشد یہ نزد جامع مسجد الراشدی، موئی لین، لیاری، کراچی۔ فون: 7542251
- ☆ مکتبہ قور حرم ۶۰ عمان سینٹر بلاک ۵ گلشن اقبال، کراچی۔ فون: 4965124
- ☆ مکتبہ قریبہ، محمد جدید، ولی سعید روڈ کالونی، کراچی۔
- ☆ علمی کتاب گر، مین اردو بازار، کراچی۔ فون: 2628939
- ☆ مکتبہ ایوبیہ، متصل محمدی مسجد روڈ، کراچی۔
- ☆ مکتبہ الحدیث ثرست، کورٹ روڈ، کراچی۔
- ☆ مکتبہ السلفیہ، شیش محل روڈ، لاہور۔
- ☆ مکتبہ قدوسیہ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔
- ☆ مکتبہ اسلامیہ، بھوانی بازار، قیصل آباد۔ فون: 631204
- ☆ جامع مسجد عثمان بن عفان "سیکٹر 11/2-G"، اسلام آباد۔
- ☆ مکتبہ دارالقرآن نمبر ۴ بال مقابل سروں اشیش ڈگری کالج چوک، امن ماں روڈ، راولپنڈی۔
- ☆ تجمیلات طبیبہ، شیخی بazar، راولپنڈی۔ فون: 5535168

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## فہرست

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
1	پیش لفظ	4
2	مقدمہ	8
3	رجب کے کونڈوں کی فوجہ تسمیہ	15
4	داستان عجیب	21
5	لکڑھاے کا افسانہ	23
6	داستان کا تقیدی جائزہ (آوابات کوھولیں)	35
7	یہ کونڈے بھلاکس کے ہیں؟	41
8	اب آئیے ایک قدم آگے چلتے ہیں	42
9	آئیے ذرا بات کوھولیں	43
10	لحہ فکریہ	48
11	سلک اہل حدیث	52
12	حرف آخر	55

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## پیش لفظ

انسان کی اس دنیا میں آمد و رفت ایک فطری نظام ہے جسکے تحت جو بھی اس دنیا میں آگیا ہے اسکو ضرور یہاں سے جانا ہے لہذا جس طرح یہاں آنے والے (نومولود) سے متعلق شریعت اسلامیہ نے چند احکام و آداب دیئے ہیں اسی طرح دنیا سے کوچ کرنے والے کے بارے میں بھی شریعت اسلامیہ نے چند احکام و آداب عطا کئے ہیں تاکہ مؤمن و مسلم کا ہر لحظہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک ﷺ کی اطاعت میں گذرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی بے چوں و چراطاعت ہی دنیا میں حقیقی سکون اور آخرت میں نجات کی ضامن ہے لیکن بعض لوگ نادانی یا جوش جذبات میں ایسے کام شروع کر دیتے ہیں جو درحقیقت مطلوب نہیں ہوتے۔

دنیا کی زندگی میں غم و خوشی یہماری و تندرستی پیدائش و اموات وغیرہ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن آج کے دور میں دین کے تحکیمکاروں ایمان فروشوں نے پیدائش سے لیکر موت تک ہر لمحہ میں اسلام کے خلاف جہالت کو شریعت ہنا کر پیش

کیا تاکہ جاہل لوگوں کا مال لوٹ کر اپنے لئے دنیا کی آسانیش اور اپنی اولاد کا سہانا مستقبل بنا سکیں۔ آہ یہ لوگ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے افسوس اور صد افسوس کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد دین سے لامب بھی ہے اور بے پرواہ بھی ہے انہیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ضرور ہے لیکن ان میں اسلام کی کوئی خوبی پائی نہیں جاتی۔

ہمیشہ سے اسلام تھا جس پر نازار  
وہ دوست بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان  
البتہ ایک تعداد ایسی ہے جو بظاہر دیندار ہے مگر ان کی دینداری میں حق و  
باطل کی آمیزش ہے یہ لوگ بری طرح بدعات خرافات حتیٰ کہ شرک میں بھی بنتا ہیں مگر  
انہیں اس کا شعور نہیں۔ بے بصیرت اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے علماء  
نے ان کو یہ باور کر دیا ہے کہ یہ کام نیکی کے ہیں اور جو لوگ ان کو بدعت اور شرک قرار  
دیتے ہیں وہ صحیح العقیدہ لوگ نہیں ہیں پھر شیطان نے ان اعمال کو خوشنما بنا کر ان کے  
سامنے پیش کیا ہے تاکہ وہ مگر اسی میں بنتا رہیں ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک نبی  
کے گذر جانے کے بعد اس کی امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو:

يقولون مالا يفعلون و يفعلون ما لا يؤمنون

(صحیح مسلم ج 1 ص 52 کتاب الایمان۔ مشکرة۔ منهاج المسلم)

وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں اور وہ کام کرتے ہیں جن کا حکم نہیں  
دیا گیا۔

یہ حدیث ان پر صادق آ جاتی ہے یہ لوگ ہاتوں کے دھنی ہوتے ہیں مگر

کردار کے بودے اور ان کاموں سے انہیں خصوصی دلچسپی ہوتی ہے جن کے کریمیا کوئی حکم شریعت نہ نہیں دیا ہے جو لوگ بدعتوں میں ملوث ہیں انکے کاموں کا جائزہ لیجئے تو صاف دھائی دیگا کہ جن کاموں کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے ان پر یہ سردھڑ کی بازی لگارہے ہیں اور جو کام دین میں بڑی اہمیت کے ہیں انکی طرف بے اختیاری برداشت ہے۔

لیا عقل و دین سے نہ کچھ کام انہوں نے  
کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے  
ان لوگوں میں اصلاح کا کام کرنا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ یہ اپنی رائے  
کے خلاف کچھ سننے کے روادار نہیں ہیں تاہم جن کی فطرت بالکل مسخ نہیں ہوئی ہے اور  
خیر پسندی کا جذبہ جن میں باقی ہے ان کی اصلاح کی توقع کی جاسکتی ہے یہ کتاب اس  
غرض سے لাহی گئی ہے کہ یہ آواز اگران تک پہنچ سکے تو کیا عجب اللہ تعالیٰ ان کے حق  
میں اسے مفید بنائے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں  
اور ہمارا کام توہر حال میں اصلاح کی کوشش کرنا ہے۔

مانو نہ مانو جان جہاں اختیار ہے  
ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں  
اس طور سے کہ مذہبی جھگڑوں کی فضاء پیدا نہ ہو حق پوری طرح واضح ہو اور  
اس کے پیش کرنے کا انداز معقول اور دلوں کو اپیل کرنے والا ہو اور جن کی اصلاح  
مطلوب ہے ان کے ساتھ دردمندی کا اظہار ہو۔

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی  
 تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن  
 چونکہ دور حاضر میں لوگ ضروریات زندگی سے آگے بڑھ کر کمالیات و  
 جمالیات کی دوڑ میں مشغولیت کے سبب خنیم کتابوں کا مطالعہ نہیں کر پاتے اسلئے عام  
 پڑھنے لکھنے لوگوں کیلئے ضرورت ہے کہ مختصر کتاب پچھے عام کئے جائیں تاکہ دینی تعلیم عام  
 ہو سکے اور لوگوں کو دینی بصیرت بھم پہنچے۔ اللہ تعالیٰ محترم محمد صادق خلیل صاحب کی اس  
 محنت کو قبول فرمائے اور لوگوں کیلئے ذریعہ نجات بنائے اور اللہ ان لوگوں کو جو بے راہ  
 روی میں بتلا ہیں دین کی سمجھ و عطا فرمائے آمین۔ یا رب العالمین۔

والسلام

محمد سلیمان ساجد مری

ناکب ناظم اعلیٰ جمعیت الہمدادیث خیر پور سندھ



## مُقْتَدِّمَةٌ

اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بنیادی تصور اس کے ماننے والوں کو دیا گیا ہے۔ اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ واحد اور لا شریک ہے۔ جو شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ دل کی گھرائیوں کے ساتھ یہ اقرار کرتا ہے۔

**أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ  
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ**

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اور لا شریک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد ﷺ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

عبادت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں رکھی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ ایک مسلم دوران نما زاس بات کا واضح اقرار کرتا ہے۔

**إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ (الفاتحة)**

اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجوہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔

عبدات کی عموماً دو بڑی فتصییں ہیں (1) جسمانی عبادت (2) مالی عبادت۔  
 (1) جسمانی عبادت میں نماز روزہ جہاد ذکر اللہ و دعائیں رکوع و تجوید وغیرہ شامل ہیں۔

(2) مالی عبادت میں مال و دولت اناج و غلہ مولیشی چوپائے اور اللہ تعالیٰ کی عطااء کردہ دیگر نعمتوں کو اللہ تعالیٰ س راہ میں خرچ کرنا قربانی کرنا وغیرہ۔

یہ تو سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک فرضی عبادت ہے جو مال و دولت کے علاوہ جانوروں کھیتوں میں پیدا ہونے والے اناج و سبزیوں وغیرہ پر بھی فرض کی گئی اور اس کا باقاعدہ نصاب مقرر کیا گیا ہے اسی طرح صدقۃ الفطر کو بھی فرض قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ نفلی صدقات کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جہاد و قتال کے موقع پر جان کے علاوہ مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

ایک اور چیز جسے عموماً عوام انس بڑی فراخ دلی سے ادا کرتے ہیں اور جس کا نام نذر ہے نذر ایک ایسی عبادت کا نام ہے کہ جس کو ایک انسان خود اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے نذر عربی زبان کا لفظ ہے جسے فارسی میں نیاز اور ارادہ اور هندی زبان میں منت کھا جاتا ہے بعض لوگ جہالت میں آ کر کہہ دیتے ہیں نذر اللہ، نیاز حسین یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے عبادت اللہ کی بندگی حسین کی اب عبادت اور بندگی میں معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ لہذا عبادت و بندگی اللہ ہی کے لئے ہوگی اسی طرح نذر و نیاز یا منت یہ سب بھی اللہ ہی کیلئے ادا کرنے ضروری ہیں جب کہ اللہ کے سوا کسی نبی،

ولی، شہید امام وغیرہ کے نام کی نذر و نیاز حرام و ناجائز ہے۔

نذر کے متعلق قرآنی آیات ملاحظہ فرمائیں البقرۃ آیت 270 آل عمران

35 مریم 26 دھر 7 علامہ شاہی نذر کے احکامات کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

قُولُهُ بَاطِلٌ وَ حَرَامٌ لَوْجُوهُ مِنْهَا أَنَّهُ نَذَرٌ لِمَخْلُوقٍ وَ النَّذَرُ  
لِلْمَخْلُوقِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ لَا تَكُونُ لِمَخْلُوقٍ وَ  
مِنْهَا أَنَّ الْمُنْذُرَ لَهُ مِيتٌ وَالْمَيْتُ لَا يَمْلِكُ وَ مِنْهَا أَنَّهُ ظَنَّ  
أَنَّ الْمَيْتَ يَتَصَرَّفُ فِي الْأَمْوَارِ دُونَ اللَّهِ تَعَالَى وَاغْتِفَادُهُ  
ذَلِكَ كُفْرٌ (رد المختار جلد دوم ص 431 طبع مصر 1966ء، بحوالہ

فہر پرسنی ایک حقیقت پسندانہ جائزہ ص 23 حافظ صلاح الدین

یوسف طبع مکتبہ ضباء الحدیث لاہور)

یعنی اس نذر بغیر اللہ کے باطل اور حرام ہونے کے کئی وجہ ہیں جن میں سے ایک یہ  
ہے کہ:

☆ یہ قبروں کے چڑھاوے وغیرہ مخلوق کے نام کی نذریں ہیں اور مخلوق کے نام کی نذر  
جائے ہی نہیں اس لئے کہ (نذر بھی) عبادت ہے اور عبادت کسی مخلوق کی جائے نہیں۔

☆ اور ایک وجہ یہ ہے کہ مُنْذُرَ اللَّهِ (جسکے نام کی نذر دی جاتی ہے) مُرْدہ ہے اور  
مُرْدہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔

☆ اور ایک وجہ یہ ہے کہ نذر دینے والا شخص مُرْدُوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ  
اللہ کے سوا کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں حالانکہ مُرْدُوں کے متعلق ایسا

رجب کے کوئی دل پر ایک نظر  
عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔

اسلام سے دوری اور جہالت کی بناء پر لوگوں نے فاتحہ اور نذر نیاز کے کچھ مخصوص طور طریقے مقرر کرنے لئے ہیں جسے وہ پوری پابندی سے ادا کرتے ہیں ایسے لوگ نماز روزے کی تو پرواہ نہیں کرتے لیکن ان رسومات کی وہ ختنی سے پابندی کرتے ہیں اور ہر سال مقررہ دنوں میں ان نیازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں مثلاً امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی بڑے بیرونی گیارہوں امام حسین رضی اللہ عنہ کی سنبیل بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام کی نیاز امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا کچھ ڈاون گیرہ ان نیازوں کی عموماً ان بزرگوں کے ناموں ہی سے شہرت ہے اور جس چیز کو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر شہرت دی جائے تو ایسی نیاز کا ادا کرنے والا مشرک اور یہ نیاز حرام ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ (البقرة آیت 173)

اور ہر وہ چیز کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہوا (تم پر حرام ہے) کسی چیز کو جب غیر اللہ کے تقریب کیلئے نامزد کر دیا جاتا ہے اور یہ عقیدہ رکھ کر نیاز ادا کی جاتی ہے کہ اگر اسے ادا کر دیں گے تو وہ بزرگ خوش ہو جائیں گے اور ماں میں برکت ڈال دیں گے اور مرادیں پوری کر دیں گے اور اگر ان کے نام کی منت ادائیگی تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور مال و کار و بار کو تباہ و بر باد کر دیں گے غیر اللہ سے تقریب کا ایسا عقیدہ یقیناً شرک ہے باقی عبد اللہ کی گائے عقیقہ کا بکرا اور ولیسہ کا کھانا اس زمرے میں شامل نہیں ہے کیونکہ عبد اللہ کی گائے سے مراد وہ گائے ہے کہ

جس کا وہ شرعی طور پر مالک ہے اور عقیقہ کے بکرے سے مراد وہ بکرا ہے جسے اسلامی احکام کے مطابق ذبح کیا گیا ہوا اور یہی حکم و لیسہ کا ہے اور اس سے نومولود یا ولہباؤ غیرہ کا تقرب حاصل نہیں کیا جاتا اسی طرح ایصال ثواب میت کی طرف سے جو کھانا وغیرہ دیا جاتا ہے اس کا مقصد میت کو اس نیکی کا اجر و ثواب پہنچانا مقصود ہوتا ہے اور اس کا تقرب حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا۔

یہ امر کس قدر افسوس ناک ہے کہ آج کے مسلمان اپنے ماں کو غیر اللہ کی نذر و نیاز میں خرچ کر کے اپنے پاکیزہ اور حلال ماں کو حرام بنادا لتے ہیں اور اس طرح وہ دنیا کا لگھانا اور نقصان بھی حاصل کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی تباہ و بر باد کر لیتے ہیں۔

### خسر الدنیا والآخرة ذلك هو الخسران المبين

نذر و نیاز کے سلسلہ میں پاک و ہند میں جہاں اور بہت سے رسمات ادا کی جاتی ہیں اور انہیں پورے زورو شور سے ادا کیا جاتا ہے وہاں کوئی بھرنے کا رواج بھی کافی شہرت حاصل کر گیا ہے یہ رسم اسلامی مہینہ کی 22 رجب کو منائی جاتی ہے اور اسے جناب عجفر صادق رحمہ اللہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے حالانکہ 22 رجب امام عجفر صادق کا نہ یوم پیدائش ہے اور نہ یوم وفات بلکہ یہ دن مشہور صحابی اور کاتب و حجی جناب معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان کا یوم وفات ہے دراصل شیعوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں اس دن کو یوم عید منانے اور ان کی وفات پر خوشی کا اظہار کرنے کیلئے اس رسم کو ایجاد کیا اور جب سنیوں نے انہیں اس طرح چکے

چنپکے کھیرا اور پوریاں کھاتے دیکھا تو معلوم کرنے پر انہی یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ہم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نیاز ادا کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ لکڑہارے کی داستان چپاں کر کے سینیوں کو یقین دلانے کی بڑی کوشش کی گئی جہلاء اور خواتین نے اس رسم کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ رسم پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔

امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق داستان گونے جو واقعہ بیان کیا ہے اس دور میں مسلمانوں کا دارالخلافہ ملک شام تھا جس میں مسلمانوں کے خلیفہ اور دیگر وزراء وغیرہ رہتے تھے مدینہ میں مرکز کی طرف سے صرف گورنر کا تقرر کیا جاتا تھا لہذا اس دور میں مدینہ طیبہ میں کسی بادشاہ و زیر اعظم اور شہزادے کا دور دوستک کہیں نام و نشان نہ تھا اور یہی بات اس افسانہ کے جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے اور داستان گونے بادشاہ و زیر اعظم و زیر اور شہزادے کا نام تک ذکر نہیں کیا جیسا کہ مصنف نے یہ بات لکھی ہے اور یہ داستان گوکی کمال ہوشیاری ہے کیونکہ ان کے اسماء ذکر کرنے سے داستان گوکی داستان کا پول کھل جاتا پھر اس داستان کا ماضی کی کتابوں میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا کیونکہ اسے رام پور میں میسوی صدی کی ابتداء میں وضع کیا گیا اس لئے ماضی کی کتابوں میں اس کا ذکر کیسے مل سکتا ہے؟ اور اس داستان کے وضع کرنے والے روافض ہیں کیونکہ جھوٹ اور تقییہ شیعیت کا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔

اس داستان کے جھوٹا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس دور میں اسے تحریر کیا گیا یہ دور داستان گوئی کا دور کھلاتا ہے اور اس دور میں انتہائی دلچسپ حیرت انگیز اور دیومالائی قسم کی طویل کہانیاں اور داستانیں لکھی گئیں اسی دور میں قصہ چہار درویش

رجب کے کوئوں پر ایک نظر

14

، طوطا بینا، داستان امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، الہ دین کا جادوی چراغ، عمر و عیار کی کہانیاں  
داستان علی رضی اللہ عنہ وغیرہ تحریر کی گئیں۔

ہمارے فاضل دوست محترم جناب الشیخ محمد صادق خلیل پیش امام راشدی  
مسجد موسیٰ لائن نے اس داستان کا خوب خوب تجزیہ کیا ہے اور اس داستان کے خاص  
خاص حصوں کا علمی تحقیقی اور عقلی لحاظ سے جائزہ لیا ہے اللہ تعالیٰ موصوف کی اس محنت  
کو قبول فرمائے اور اس کتاب کو عوامِ الناس کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔

ابو جابر عبد اللہ دام انوی

مفتي جمعية اهل حدیث سندھ حلقة لیاری

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعدا

فاعوذ بالله من الشیطون الرجیم

بسم الله الرحمن الرحيم

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْفَوْلَ فَيَتَبَعُونَ أَخْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ (الزمر: 18)

ترجمہ: جو بات لو کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع  
کرتے ہیں یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقلمند بھی  
ہیں۔

دین اسلام ایک سیدھا اور مکمل دستور حیات ہے جسکو اختیار کرنے میں دنیا و  
آخرت کی کامرانیاں پہاں ہیں۔ یہ ایک ایسی روشن شاہراہ ہے جہاں رات دن کا کوئی  
فرق نہیں اور نہ ہی اسکیں کہیں بیچ فغم ہے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو انسانیت کیلئے پسند  
فرمایا اور رسول اللہ ﷺ کی زندگی ہی میں اسکی تکمیل فرمادی ارشاد ربانی ہے۔

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ أَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ  
رَضِيَّتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا۔ (المائدہ: 3)

آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری

رجب کے کوئی پر ایک نظر

16

کردی اور تمہارے لئے اسلام کو بحیثیت دین پسند فرمایا۔

رسول اللہ ﷺ نے ان لفظوں میں اپنی امت کو نصیحت فرمائی۔

ترکت فیکم امریں لن تضلو ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و

سنّتی (موطا، الحاکم)

میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ بے جا رہا ہوں جب تک ان دونوں

کو مضبوطی سے پکڑ رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے اللہ کی کتاب اور میری

سنّت۔

اب کتاب اور سنّت ہی بنیاد دین قرار پائے عقیدہ عبادت معاملات اخلاق

غرضیکہ جملہ شعبہ ہائے زندگی میں یہی دلیل و رہنمائی ہر میدان میں ان کی پابندی

ضروری قرار پائی اور اسی کتاب و سنّت کی اتباع کامل کا نام دین اسلام ٹھہر اصحابہ کرام

رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کتاب و سنّت کو جان سے لگائے رکھا ان کے معاشرے

میں کتاب و سنّت کو قیادی حیثیت حاصل رہی اور اسی شاہراہ پر گامزن رہ کر دنیا و

آخرت کی کامرانیوں سے ہمکنار ہوئے۔

مسلمانوں کیلئے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے سرچشے دو ہیں ایک اللہ کی

کتاب اور دوسرا رسول اللہ ﷺ کی حدیث شریف۔ مسلمان جب تک ان دونوں

سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے اور زندگی کے ہر موڑ پر ان سے رہنمائی حاصل کرتے

رہیں گے تو کبھی بھی راہ حق سے نہیں بھکھیں گے۔

آج مسلمانوں میں بہت زیادہ دینی اختلاف اور مذہبی فرقے ہیں اور

مسلمانی جھگڑے اور فساد بڑھ چڑھ کر ہیں اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کو پس پشت ڈال دیا ہے اور آنکھیں بند کر کے فرقوں اور شخصیتوں کے پچھے لگ چکے ہیں اور نئے نئے طریقے ایجاد کرنے ہیں اور ہم بدعاں اور خرافات کے پیروکار بن چکے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اس منزل تک پہنچے ہیں۔

زندگی گذارنے کا بہترین طریقہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے جو ہماری پوری زندگی میں رہنمائی کرتی ہیں جب مسلمانوں کا تعلق کتاب و سنت سے کمزور ہو جاتا ہے اور وہ ان کو چھوڑ کر دوسری طرف دیکھتا ہے تو اس کو زندگی کی اور را ہیں دکھائی دیتی ہیں جو اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں ان دوسری را ہوں کو (دین سمجھنا) شریعت میں بدعت کہا گیا ہے۔ اور ارشاد گرامی ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو دوزخ میں لے جانے والی ہے۔

یاد رہے اگر بدعت کا ایک بار دروازہ کھل چکا تو پھر اس کا بند ہونا براہی مشکل ہے یہی سبب ہے کہ آج مسلمانوں میں ہزاروں کی تعداد میں بدعاں پھیلی ہوئی ہیں اور پھیلتی جا رہی ہیں بدعت کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ جب ایک بدعت اختیار کی جاتی ہے تو اس کے بد لے میں ایک سنت مت جاتی ہے اسی طرح پھر بدعتیں بڑھتی جائیں گی اور سنتیں مٹتی جائیں گی حتیٰ کہ مسلم معاشرہ بدعتوں اور رسولوں کا مجموعہ بن جائے گا۔

اسلام کی روشن تعلیم کے بعد بدعاں اور خرافات کو اختیار کرنا اور محمد ﷺ کا امتی ہونے کے باوجود قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھنا یہ مسلمان کے

شایان شان نہیں۔

الغرض ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں چاہے انفرادی ہوں چاہے اجتماعی ہاں ہوں یا سماجی ہاں ہے عدالتی ہوں یا معاشرتی قرآن و حدیث کو اپنا رہنمایا بناانا چاہیے۔ جب کوئی شخص دین کے حوالہ سے بات کرے تو اس سے قرآن و حدیث کا حوالہ طلب کیا جائے کہ جب یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دیں تو ہماری آنکھوں پر ہم مانے کیلئے تیار ہیں لیکن اگر قرآن و حدیث سے ثابت نہیں تو پھر ہم اس کو تسلیم کرنے کے پابند نہیں ہیں۔

قارئین توجہ فرمائیں! جوں جوں زمانہ گزرتا جا رہا ہے کتاب و سنت کی پکڑ ڈھنیلی ہوتی جا رہی ہے اور بدعتات اور خرافات نے ہر شعبہ میں اپنے پاؤں جمانے شروع کر دیئے ہیں اور اسوقت پورے دین کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے آج کتاب و سنت کی دعوت لوگوں کو انوکھی لگتی ہے کیونکہ بدعتات اور خرافات کو ہی دین سمجھ لیا گیا ہے۔

افسوں ہے کہ آج مسلمانوں نے ہر مہینہ میں کوئی نہ کوئی بدعت ضرور نکالی ہوئی ہے کسی بھی مہینہ کو معاف نہیں کیا۔ مقدس مہینوں کے ناموں کو بگاڑ کر کھدیا ہے کوئی ماتم اور نیاز کا مہینہ، تو کوئی نخوست کا مہینہ، کوئی جشن اور قوالي کا مہینہ کوئی گیارہوں کا کوئی عرس اور چہلم کا کوئی بڑی رات کا کوئی شبینہ کی رات کا کوئی قبرستان میں جانے کا اور ایک مہینہ کو کوئی نہیں بنادیا اور ہندوستان اور پاکستان میں بڑی عقیدت کے ساتھ کوئی بھرے جاتے ہیں اگر کسی کے پاس پیے نہیں تو قرضہ لیکر بھی کوئی بھرتا ہے حتیٰ کہ کچھ تو ایسے ہیں جنکے پاس پیے نہیں ہیں مگر اڑوں پڑوں سے

بھیک مانگ کر بھی کوئی بھرتے ہیں سوچتے ہیں کہ اس ثواب سے ہم محروم نہ رہ جائیں کیونکہ ان کو مولویوں نے جو ایسی پڑھائی ہوئی ہے اور بد قسمتی کی بات ہے کہ یہ ساری مصائبیں ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں ہیں اور کسی ملک میں نہیں۔ پاکستان کی تو کیا ہی بات ہے پورے دنیا کے ممالک میں سے بدعتات و خرافات کے لحاظ سے پاکستان فرست پوزیشن پر آ رہا ہے یہ سب پاکستانیوں کی کرم نوازیاں ہیں پاکستان کے نام کو دیکھ کر تو بڑی خوشی ہوتی ہے مگر پاکستان کے حالات کو دیکھ کر رونما جاتا ہے

اگر حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے

اگر خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے

اسوں کہ آج پاکستان کو بدھستان، کفرستان اور شرکستان بنا دیا گیا ہے ذرا نظر دوڑائیں پاکستان میں، کیا کچھ نہیں ہو رہا سب کچھ ہو رہا ہے ایک طرف بے شعور حکمران پاکستان کو تباہ کرنے میں شلے ہوئے ہیں تو دوسری طرف ضمیر پرست ملاں اس کے بگاڑنے کیلئے خرافات کے تیر اور بدعتات کے کھڑائے لئے کھڑے ہیں۔

جع فرمایا تھا شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ رحمة

واسعة نے کہ یہ ملک (پاکستان) پنساریوں کا ملک ہے جس طرح پنساری کے پاس ہر چیز ملتی ہے املی سے لیکر اجوائیں تک ہر چیز ملتی ہے پاکستان میں دین بھی ایسا ہی ہے اس دین میں مولوی ہاتھ ڈالتا ہے جو چیز چاہے نکال کر دکھاتا ہے۔

اب ذرا کچھ فاصلہ آگے چلئے اور پھر:

آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا

بنایا جنہوں نے ہے اپنا غلام  
ڈبویا جنہوں نے ہے مذہب کا نام  
ہوئے جن کے باعث مسلمان ذلیل  
نہیں دین و ایمان کی پرواہ جنہیں  
یہی ان کی دنیا یہی ان کا دین  
نبی کا ہو غصہ اللہ کا عتاب  
کریں گے نہ ہرگز اسے وہ قبول  
ولیکن حدیثوں پر ایمان ہے نہیں انہیں  
لٹائیں وہ بے ہودہ دولت سدا  
نہیں ہے جن کی کچھ بھی حدوثمار  
کہے پر ہمارے کرو تم یقین  
بتاؤ تو آکر ہمیں تم ذرا  
یہ مرد مسلمان کا شیوه نہیں  
ہدایت کے رستے پر وہ ہرگز نہیں  
ضلالت سے بچنا ہے اس کا محال  
نہ نفس لعین کے بنو غلام  
اماموں کو سمجھو نہ حاجت روا

بتاؤ تمہیں اب وہ باتیں تمام  
لکھوں بعد اس کے وہ باتیں تمام  
وہ ہیں چند رسماں پلید و رذیل  
کیا بس ہے رسول نے گمراہ انہیں  
جهالت کی رسماں پر کرتا یقین  
کریں رسول بدعت میں دولت خراب  
سناو پیام اللہ و رسول ﷺ  
وہ جھوٹ قصوں پر تو کر لیں یقین  
رہیں شرک و بدعت پر ہر دم فدا  
کرتے ہیں وہ دن رات رسماں ہزار  
یہ کوئی دل کی ہے رسم اچھی نہیں  
ہے بدعت کا کرنا کہاں پر روا  
کرے شرک مسلم یہ زیبا نہیں  
رکھے بدعتوں پر جو اپنا یقین  
پڑا بدعتوں کا ہو جس پر و بال  
مراسم قبیحہ میں لگ کر مدام  
خدا کی دل میں جو عظمت ذرا

میں کہتا ہوں ان سے تھی بار بار  
تو پاؤ گے عقلي میں اس کی سزا  
کہ کوئی دن کا کرنا نہیں ہے روا  
رجب کے مینے میں ہوتے ہیں جو  
نہ دیگر کتابوں میں دیکھا لکھا  
وہ لکھتے ہیں اس کو سراسر برا  
تم عالموں سے یہ پوچھو کہیں  
وہ دیں گے تمہیں سب حقیقت بتا کر  
کہے ہمارے پر کرو گے یقین  
نہ جانا کہیں نیم ملنوں کے گر  
ملے گی نہ تم کو پھر راہ صواب

میری قسم سے الہی پائیں یہ رنگِ قبول  
پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کیلئے

### داستانِ عجیب

لو کوئی دن کا کچھ حال اب تم سنو  
رجب کے مینے میں ہوتے ہیں جو  
مشکل بہت پڑے گی برابر کی چوٹ ہے  
آئینہ دیکھنے گا ذرا دیکھ بھال کے  
جس کہانی پر یہ عمارت تعمیر کی گئی ہے اور جس داستان پر یہ بلند نگ کھڑی کی

جو ہیں دنیا میں مرد پر ہیز گار  
نہ مانو گے گر تم کسی کا کہا  
میں کہتا ہوں تم سے سنو ذرا  
لو کوئی دن کا کچھ حال اب تم سنو  
نہ قول ائمہ میں اس کا پتا  
جو ہیں دین کے رہنماء پیشووا  
نہ اس بات پر ہو تمہارا یقین  
جو تم عالموں سے یہ پوچھو گے جا کر  
سنو گے جوان سے تو تم بالیقین  
اسے تم ذرا یاد رکھنا مگر  
وگرنے کریں گے وہ ایماں خراب

گئی ہے اب ذرا اس کا جائزہ لجھنے اور حقیقی بات یہ ہے کہ افسانے اور کہانیاں اکثر من گھڑت جھوٹ کا پلندہ ہوا کرتی ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوا کرتا اور اللہ کے فضل و کرم سے جب تک الحدیث موجود ہیں وہ ان ٹوٹی پھوٹی عمارتوں اور خوابوں پر قائم کی ہوئی بلندگوں کو قرآن و حدیث کے مضبوط ہموزے سے توڑتے اور گراتے رہیں گے اور یہ آواز بلند کرتے رہیں گے کہ لوگویں بلندگ اور عمارت کچی اور کچی بنی ہوئی ہے اس سے نکل جاؤ یہ آج یا کل گرنے والی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں اب جو اس آواز کو سن کر نکل آئے گا اس کی جان اور مال ہلاکت سے فتح جائے گا لیکن جو ضمد اور ہٹ دھری بغرض اور تعصّب کی وجہ سے نہیں نکلے گا اپنے سامان کو بھی تباہ کروائے گا اور اپنی جان کو بھی ضائع کرے گا تو اس طرح کی بلندگوں کا سہارا لینے والے اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں اسی طرح افسانوں اور کہانیوں پر بنی ہوئی عمارت کا سہارا لینے والے بھی اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔

آزاد رو ہوں اور میرا مسلک ہے صلح کل  
ہرگز کبھی کسی سے عداوت نہیں مجھے  
تعجب ہے کہ اکثر عوام بغیر سوچے سمجھے اس من گھڑت افسانہ کے سچا ہونے  
پر ہر طرف آنکھ بند کر کے بڑی عقیدت کیسا تھا ایمان لے آتے ہیں اور افسوس تو ان  
لوگوں پر ہے جو بڑے پڑھے لکھے ہیں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں لکھنے  
پڑھنے میں زیرزبر کی غلطی نہیں کرتے حساب کتاب میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتے گفتگو کر  
نے میں بڑے ماہر خرید و فروخت میں بہت ہوشیار کبھی دھوکہ نہیں کھاتے کوئی چیز

رجب کے کوئی پر ایک نظر

23

دیکھتے ہیں تو فوراً پچان لیتے ہیں کہ اصلی ہے یا نقلی اچھی کوالٹی کی ہے یا دونبڑ ہے لیکن وہ ان باتوں میں دھوکہ کیسے کھاتے ہیں من گھڑت قصوں اور کہانیوں کو کیسے قبول کر لیتے ہیں۔

بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ

ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے

حضرت یہ دور جہل ہے دولت کو ہے فردغ

اب ہم سے قدر دانی علم عمل گئی

تو بہر حال جس طرح آدمی کوئی چیز خریدتا ہے تو پوری طرح دیکھتا ہے

خراب نہ ہوٹوئی ہوئی نہ ہو جعلی نہ ہو تو اسی طرح آدمی مسلک کو بھی دیکھ کر اختیار کرے اور پوری تحقیق کر کے اس کو اپنالے۔

قارئین کرام! اب ذرا تحقیق کا چشمہ پہن کر دل کو سمجھیدہ بنائے اور انصاف کا ترازو

لیکر اور آنکھوں میں قرآن و حدیث کا سرمذال کراس کہانی کو پڑھیں پڑھنے کے بعد

اس پر غور و فکر کریں۔ اور پھر اس کو پڑھیں۔

### لکڑہارے کا افسانہ

یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے

مدینہ منورہ میں ایک لکڑہارہ تھا جو ”کفا اندک و عیال بسیار“ کے چکر میں

پڑا ہوا تھا یعنی اس کی اولاد بہت تھی اور کھانے کو تھوڑا۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانا

اور بازار میں جا کر بیچنا پس یہی اس کا ایک ذریعہ معاش تھا اس ذریعہ سے روز کے روز

جو پیسے اسکو ملتے تسلی ترشی سے وہ انہی پیسوں میں اپنا گذر بسر کرتا تھا۔ اور اگر کسی دن لکڑیاں نہ ملتیں یا نہ بکتیں تو اس دن سارے گھر کو فاقہ میں رات بسر کرنا پڑتی تھی۔

اس طرح پریشانی اور تنگدستی کی زندگی بسر کرتے جب ایک زمانہ گذر گیا تو مدینہ کی بودو باش سے لکڑہارے کی طبیعت اچاٹ ہو گئی وہ دلیں چھوڑ کر پر دلیں چلا گیا کہ شاید پر دلیں ہی میں پہنچ کر قسمت کی برگشتنی اور زمانے کی گردش سے نجات مل جائے (میں یہاں رک کر کہوں گا کہ جب کوئندوں کا افسانہ بنانا ہی تھا تو ظاہر ہے لکڑہارے کو آگے پیچھے کرنا ہو گا اور اس پر پریشانیوں کے پہاڑ ڈالنے ہو گئے تاکہ کوئندوں کی کرامت صحیح واضح ہو اور افسانہ چک جائے)۔ لیکن عسرت اور تنگدستی نے وہاں بھی اسکا پیچھا نہ چھوڑا وہی جنگل سے کاث کاث کر لکڑیاں لانا اور پیٹ پالنا جو دلیں میں اسکا معمول تھا وہی پر دلیں میں بھی رہا اور اس نے اسی حال میں پر دلیں میں رہ کر اپنی زندگی کے بارہ سال گزار دیئے۔ (اب ذرا اٹھہر کر مختصر دماغ سے سوچئے کہ انسان تھا کہ جن تھا بارہ سال بغیر گھروالوں کے اس نے گزارے اور ظاہر ہے نہ اسکا وہاں کوئی گھر ہو گا نہ دوست احباب ہو گئے کیونکہ وہ تو جبی تھا اب کیا کیا جائے بہر حال کہتے ہیں مثل مشہور ہے کہ (جمحوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے)

آگے چلنے! اب پر دلیں میں رہ کر اسے گھر یاد آتا تھا بچے یاد آتے تھے اور یوی یاد آتی تھی لیکن نہ کبھی پاس پیسے ہوا کہ پچھے پکوں کو بھیجا اور نہ شرم اور ندامت نے اسے اسکی بہت دی کہ گھروالیں آتا دھر جب گھر سے لکڑہارے کے لاپتہ ہو جانے پر گھروالوں کا کوئی سہارا نہ رہا تو لکڑہارے کی یوی نے وزیر کے محل میں حاضری دیکر

وزیر کی بیگم کے سامنے اپنا دکھ درد بیان کیا اور وزیر کی بیگم نے ترس کھا کر لکڑہارن کو اپنی خادمه بنالیا اور گھر میں جھاؤ دینے کی خدمت اسکو سونپ دی (اب ذرا سوچئے لکڑہارے کی بیوی نے یہ نہیں کہا کہ میرے شوہر کا پوتہ کیا جائے اسے تلاش کیا جائے کیونکہ کوئدوں کا قصہ بنانا جو ہوا آفرین ہوا سکو جس نے یہ قصہ گھڑا ہے پیٹ کی خاطر ایسی باتیں کر کے اپنا ایمان فروخت کر دیتے ہیں) اور اس طرح اسکی اور اسکے بچوں کی گذریسر کی گاڑی چلتی رہی اور ایک اچھی صورت نکل آئی پھر لکڑہارے کی بیوی بچوں کو وزیر کے محل میں جب فراغت سے کھانے پینے کو ملاتا تو اگلی رگوں میں خون دوڑنے لگا اور بھوک سے مر جھائے چھروں پر کچھ رونق آنے لگی۔

ایک دن کا ذکر ہے کہ لکڑہارے کی بیوی وزیر کے محل کی ڈیوڑھی میں جھاؤ دے رہی تھی اتنے میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرف سے گذر ہوا اور جب آپ وزیر کی ڈیوڑھی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دم ڈیوڑھی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنے عقیدت مندوں سے پوچھنے لگے کہ یہ کون سا مہینہ ہے اور آج چاند کی کوئی تاریخ ہے عقیدت مندوں نے بصد عرض کیا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور آج چاند کی بائیسویں تاریخ ہے۔

پھر پوچھا معلوم ہے تم کو کہ رجب کی بائیسویں تاریخ کی کیا فضیلت ہے عرض کیا جناب آپ ہی بہتر جانتے ہیں ارشاد ہوا سنواں تاریخ کی بڑی فضیلت ہے اگر کوئی برگشتی قسم گردش روزگار سے کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو یا رزق کی بیگنی نے اسے دبالیا ہواں کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ رجب کی

22 تاریخ کونہادھو کر عقیدت کے ساتھ میرے نام کے کوٹے بھرے یعنی بازار سے نئے کوڑے کوٹے خرید کر لائے اور انہیں سمجھی میں تلی ہوتی میٹھی خستہ پوریوں سے بھرے پھر صاف چادر بچھا کر کوٹدوں کو اس چادر پر رکھے اور پورے اعتقاد کے ساتھ میرا فاتحہ کرائے اور میرا ہمی وسیلہ پکڑ کر اللہ سے دعا کرے تو اس کی ہر مشکل رفع اور ہر حاجت دم کے دم میں پوری ہو جائے گی اور اگر اس طرح کے عمل کے بعد بھی کسی کی مراد پوری نہ ہو تو وہ قیامت کے دن میرا دامن پکڑ سکتا ہے اور مجھ سے اس کی باز پرس کر سکتا ہے آپ نے یہ سب سچھے ارشاد فرمایا اور پھر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ وزیر کی ڈیوڑھی سے آگے بڑھ گئے (اب دیکھئے اور مسکرائیے کہ جس نے قصہ گھڑا ہے اس کا اصل مقصد حلوہ اور میٹھی خستہ پوریاں تھیں اس نے ایسا مضمون بنایا تاکہ حلوہ اور خستہ پوریاں کسی طریقے سے آجائیں۔ کہتے ہیں کہ مثل مشہور ہے کہ ”بلی کو خواب میں چھپھڑے کی یاد“، مٹاں بیچارے کو بھی حلوہ یاد آتا ہے اس لئے جفا کشی کر کے یہ قصہ ٹھوکا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کوٹے بھرنے سے اگر مراد پوری نہ ہو تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ سکتا ہے اور پوچھ چکھ کر سکتا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ قصہ بنانے والے نے کیسی ہوشیاری کے ساتھ کام لیا ہے کہ ویسے شاید لوگ کوٹے نہ بھریں، حلوہ کا شکار ہاتھ سے نکل جائے، اس لئے اس نے گارنٹی بیان کی ہے تاکہ کوٹے پکے ہو جائیں یعنی لوگ کوٹے ضروری بھریں۔ یہ سب کیا ہے؟ عربی کا مقولہ ہے کہ (بطن المرا عدوہ) انسان کا پیٹ اس کا دشمن ہے۔ بہر حال قصہ بنانے والے پر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اس نے بڑی محنت کی ہے۔ اس بیچارے کا قصور نہیں کیونکہ پیٹ کے لئے

پچھہ کرنا پڑتا ہے اور اس طرح کے لوگ بہت پچھہ کرتے ہیں۔

اب آگے چلنے: لکڑہارے کی خستہ حال یہوی جوزیر کے محل کی ڈیلوڑی میں جہاڑو دے رہی تھی اس کو جب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے گردش روزگار سے نجات حاصل کرنے کا یہ گر معلوم ہوا تو اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ سب کام کا ج چھوڑ کر فوراً کوئی دل کے اہتمام میں مصروف ہو گئی۔ (میں یہاں بیان کروں گا، یہی ہے انہی تقلید کے بغیر تحقیق کے سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا۔ یہ قصہ ہی جھوٹا ہے۔ ویسے ہی سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں)۔ اور نہاد ہو کر بڑی عقیدت سے ساتھ بتائے ہوئے طریقے پر اس نے خستہ پوریوں کے کوئی دلے بھرے اور انہیں صاف چادر پر رکھ کر بڑے سچے دل کے ساتھ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ کروائی اور دعا کی کہ اے اللہ! امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں میرے دل کے درودوں کر دے۔ میرا شوہر خیریت سے گھر آجائے اور جب آئے تو اپنے ساتھ پچھہ مال او، دولت لے کر آئے۔

اب اوہر کی سنو: لکڑہار اب ارہ بر س سے پر دلیں میں بڑی عسرت اور تنگ حالی کی زندگی گزار رہا تھا لیکن امام صاحب کی کرامت دیکھئے اور کوئی دل کی برکت دیکھئے کہ جیسے ہی مدینہ میں لکڑہارے کی یہوی نے امام صاحب کے کوئی دلے بھرے ویسے ہی پر دلیں میں لکڑہارے کے دن پھرے (دن تو پھرنے ہی تھے کیونکہ قصہ جو بنایا تھا اور کوئی دلے جو کئے گئے۔ ظاہر ہے کرامت ہو گی۔ افسوس ہے اس دجال پر جس نے یہ قصہ بنایا)۔

ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک لکھاڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گئی۔ لکھاڑی گرنے سے زمین پر جو دھماکہ ہوا اس سے لکڑہارے نے اندازہ لگایا کہ یہاں کی زمین شاید اندر سے کچھ خالی ہے۔ اس نے زمین کھو دنا شروع کی۔ ابھی زمین کھودتے زیادہ وقت نہ لگا تھا کہ ایک بڑا شاہی دفینہ زمین سے برآمد ہوا۔ زرو جواہر، سونا چاندی، مال زیور اور بیٹھار روپیے پیسے۔ غرض اس دفینہ سے ایک بڑا خزانہ لکڑہارے کے ہاتھ لگا جس نے دم کے دم میں لکڑہارے کے دن پھیر دیئے اور اس خستہ حال زندگی میں ایک تعمیری انقلاب پیدا کر دیا۔

لکڑہارے نے اس بے پایاں دفینہ پر قبضہ کر کے آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں امیرانہ سدھار پیدا کیا۔ اب نوکر چاکر، باندی غلام، اوٹ، خچر اور بہت سے گھوڑے اور امارت کا دوسرا افر سامان اس کے پاس موجود تھا۔ یہ سارا ساز و سامان اور دفینہ سے نکلی ہوئی ساری دولت لے کر بڑے امیرانہ مٹھات اور بڑی ریسانہ شان و شوکت کے ساتھ مدینہ منورہ اپنے مکان پر پہنچا۔ گھر پہنچ کر لکڑہارے نے وزیر کے محل کے ساتھ ہی اپنا ایک عالیشان مکان تعمیر کرایا اور بڑے مٹھائی سے امیرانہ زندگی بس کرنا شروع کر دی۔ لیکن وزیر کی بیگم کو لکڑہارے کے اس عظیم تعمیری انقلاب کے مطلق خبر نہ ہوئی اور نہ اس بات کا پتہ چلا کہ اس کے محل کے پاس ہی لکڑہارے نے بھی اپنا شاندار مکان تعمیر کروالیا ہے۔

ایک دن اتفاق سے وزیر کی بیگم جب اپنے محل کے بالاخانہ پر چڑھی تو اسے دیکھ کر بڑا جھنڈا ہوا کہ اس کے محل کے پاس ہی جو ایک وسیع اور کشاور زمین پڑی

ہوئی تھی اس پر ایک نو تعمیر مکان کھڑا آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ اس نے خادماؤں سے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ سب خادماؤں نے ایک زبان ہو کر عرض کیا کہ یہ اسی لکڑہارے کا مکان ہے جس کی بیوی کبھی آپ کے یہاں جا رہب کشی کا کام کرتی تھی لیکن خدا کی شان کر آج اس کے بڑے مٹھائھ ہیں۔ بیگم نے اپنی ایک خواص سے کہا تو لکڑہارے کی بیوی کو ذرا دیر کے لئے میرے پاس بلا لاتا کہ ختنہ حال لکڑہارے کے اس حیرت انگیز تعمیری انقلاب کی کچھ حقیقت معلوم ہو۔ خواص گئی اور دم کے دم میں لکڑہارے کی بیوی کو بلا لائی۔ وزیر کی بیگم نے اس سے پوچھا تم تنگستی اور ناداری کا شکار تھیں۔ پھر تمہیں یہ شاندار تموں کس طرح حاصل ہو گیا؟ اس پر لکڑہارے کی بیوی نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق کوئی دن کے بھرنے اور ان کی برکت سے ایک بڑا دفینہ ہاتھ لگنے کی پوری داستان بیگم کے سامنے پیش کر دی۔

وزیر کی بیگم نے یہ سب کچھ سنا تو وہ مسکرائی اور کہا کہ تیری باتیں دل کو نہیں لگتیں۔ کوئی دن کا بھرنا بھی کون سا کارنامہ ہے جو آدمی کو یکدم زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دے۔ مجھے تیری بات پر بالکل یقین نہیں آتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شوہرنے رہنی کر کے یا کہیں ڈاکر کریں یا افراد ولت حاصل کی ہے۔ وزیر کی بیگم جب کوئی دن کی فضیلت پر ایمان نہ لائی تو فوراً ہی اس پر اور اس کے شوہر پر ایک غیبی عتاب نازل ہوا۔ اس کا شوہر بادشاہ کا بڑا وزیر تھا اور بڑا ہی منہ چڑھا وزیر تھا۔ چھوٹا وزیر دل ہی دل میں اس سے جلا کرتا تھا اور دن رات شاہی دربار میں اس کو نیچا دکھانے کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ موقع ہاتھ آیا تو مؤثر طریقہ پر اس نے بادشاہ کے کان بھرے

رازداری کے ساتھ بادشاہ کے گوش گذار کیا کہ بڑا وزیر آپ کی حکومت کا بہت بڑا خائن ہے۔ اس نے خیانت کے ذریعہ سرکار کی بہت بڑی دولت اپنے قبضہ میں کر رکھی ہے۔ یقین نہ ہو تو اس کے حساب کی جائج کر اکروکہ لیا جائے۔

بادشاہ نے حکم دیا کہ بڑے وزیر کے حساب کی جائج کروائی جائے اور جب شاہی حکم سے حساب کی جائج کرائی گئی تو شاہی خزانے کا لاکھوں کا غبن بڑے وزیر کی طرف سے لکلا۔ بادشاہ کو جلال آگیا۔ اس نے فوراً ہی بڑے وزیر کو وزارت کے عہدے سے معزول کیا اور اس کی ساری جائیداد اور اس کا تمام مال و متاع ضبط کر کے اسے شہر بدر کر دیا۔

جو وزیر کل تک حکومت کے ہر سیاہ و سفید کا مالک تھا آج جب اس پر شاہی عتاب نازل ہوا تو سب کچھ چھوڑ کر اسے اپنی بیگم کے ساتھ پاپیادہ خانی ہاتھ اس حال میں شاہی حدود سے شہر بدر ہو جانا پڑا کہ زادروہ کے لئے ایک پیسہ بھی اس کی گرد میں نہ تھا۔ صرف دو درہم کی طرح بیگم کی جیب میں پڑے رہ گئے تھے۔ راستے میں کسی جگہ خربوزے بکتے دیکھے تو بیگم نے ایک درہم دے کر ایک خربوزہ خرید لیا اور اسے ایک دستی میں باندھ لیا کہ دم اشتہا بھوک کی تکلیف سے کچھ نہ کچھ نجات حاصل کی جاسکے۔ جس دن وزیر کو شاہی حکم سے شہر بدر کیا گیا تھا اسی دن بادشاہ کا شہزادہ صحیح سوریے شکار کو گیا تھا لیکن جب شام تک شہزادہ شکار سے لوٹ کر واپس نہ آیا تو بادشاہ کو شہزادے کی طرف بڑی تشویش ہوئی۔ چھوٹے وزیر نے شاہی آداب بجالاتے ہوئے عرض کی جہاں پناہ شہزادے صاحب جس راہ شکار کو گئے تھے اسی راہ معزول

وزیر کو بھی جاتے دیکھا گیا ہے۔ نصیب دشمناں کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں وزیر صاحب انتقام آشناز دے صاحب کو کوئی گزند پہنچا دیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے بہت سے سواروں کو چاروں طرف دوڑایا کہ وزیر جہاں بھی ملے اسے فوراً گرفتار کر کے لئے آئیں۔ سوار گئے اور دم کے دم میں وزیر کو راستے سے گرفتار کر کے لئے آئے اور پابند نجیب بادشاہ کے حضور پیش کر دیا۔ وزیر کے ہاتھ میں رومال میں بندھا ہوا خربوزہ تھا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ معزول وزیر نے عرض کیا حضور یہ خربوزہ ہے۔ لیکن جب کھول کر دیکھا گیا تو خربوزہ کی جگہ خون میں لخترا ہوا شہزادے کا سر تھا جسے دیکھ کر شاہی غم و غصہ کی کوئی انہتائی نہ ہی۔ حکم ہوا کہ دونوں کو جیل بھیج دیا جائے اور صبح سوریے ان کو چھانی پر لٹکا دیا جائے۔

معتوب وزیر اور اس کی بیگم دونوں کے دونوں بصد ذات و خواری جب جیل پہنچنے تو ان کا براحال تھا۔ انہیا درجہ کی پریشانی کی حالت میں سرتاسر یاس کا عالم ان پر طاری تھا۔ اسی حال میں شکستہ خاطر وزیر نے غمزدہ بیگم سے کہا معلوم نہیں اللہ کی جانب میں ہم سے کوئی خط اسرزد ہوئی کہ جس کا خمیازہ اس بے پناہ مصیبت کی صورت میں ہمیں بھگلتا پڑا ہے کہ اچانک ہاتھ سے وزارت گئی پھر ذات کے ساتھ نہیں شہر بدر کیا گیا پھر کپڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا اور اب صبح ہوتے ہوئے چھانی پر لٹکا دیا جائے گا۔ رومال میں بند ہے ہوئے خربوزے کا جیرت انگیز طریقہ پر شہزادے کا سر بن جانا بھی اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ ضرور ہم سے کوئی بڑا گناہ اسرزد ہوا ہے ورنہ کہاں خربوزہ اور کہاں شہزادے کا سر۔ اب ہمیں اور تمہیں دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔

رجب کے کوئی پر ایک نظر

32

اور اپنی جس غلطی کا پتہ چلے اس سے فوراً توبہ کرنی چاہیئے اور اللہ سے معافی کی دعا مانگنی چاہیئے۔

بیگم نے کہا جہاں تک یاد پڑتا ہے مجھ سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہیں ہوا ہے کہ جس کا یہ عبرت ناک انجام سامنے آتا لیکن ہاں کئی دن ہوئے میں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی پر ایمان لانے سے ضرور انکار کر دیا تھا۔ پھر بیگم نے لکڑھارے کی بیوی کے کوئی بھرنے اور کوئی کی کرامت سے دم کے دم میں اس کے مالدار ہو جانے کی پوری داستان وزیر کو سنائی۔

وزیر نے بیگم کی زبان سے جب لکڑھارے کا یہ پورا قصہ سناتو کہا بیگم تم نے امام کے قول کی تصدیق نہیں کی اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ پر کوئی بھرنے کے عقیدے پر تم ایمان نہیں لائیں۔ حقیقت میں یہی امام کی شان میں تمہاری بہت بڑی گستاخی تھی۔ اب میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس گستاخی کا شاہی عتاب کی صورت میں یہ سارا اقبال ہم پر پڑا ہے۔ بیگم نے بھی اس بات پر یقین کر لیا اور سچے دل سے عہد کیا کہ اگر اس بے پنا مصبب سے نجات ملی تو شاندار اہتمام کے ساتھ امام کے کوئی ضرور بھروں گی۔ پھر دونوں امام کا وسیلہ پکڑ کر رات بھر خدا سے دعا کرتے رہے۔ ذرا دیکھئے کہ کس قدر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کوئی کوئی کوئی کے لئے محنت کی گئی ہے اور ڈرایا گیا ہے کہ کوئی بھرنے کی یہ سزا ہے تاکہ لوگ ڈر کے مارے ضرور بھر نے ہیں۔ بھریں۔ مہماز اور روزوں کی کوئی پرواہ نہیں لیکن کوئی بھرنے ضرور بھر نے ہیں۔

روزہ نماز نہ حج و زکوٰۃ

سمجھتے ہیں رسموں میں اپنی نجات

گذاریں افسانوں میں راتیں تمام  
نہ لیں ہاتھ میں پر اللہ کا کلام  
یعنی نماز اور روزوں سے کونڈوں کے مقام کو بڑھا گیا۔  
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود  
ستا جا اور شرماتا جا۔ اگر غیرت ہے تو اپنے مسلک سے توبہ کرتا جا۔  
اب ادھر جیسے ہی بیگم نے بصد عقیدت کونڈے بھرنے کا عہد کیا ادھر ویسے  
ہی حالات نے اپنارنگ بدلا یعنی صبح ہوئی تو بادشاہ کا گمشدہ شہزادہ صحیح سلامت گھر  
واپس آ گیا۔ شہزادہ کو دیکھ کر بادشاہ کو بہت بڑی خوشی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی۔ اس  
نے فوراً اسیران (قیدی) جیل کو اپنے پاس طلب کیا۔ پھر رومال کھول کر دیکھا گیا تو  
اس میں شہزادے کے سر کی جگہ وہی خربوزہ برآمد ہوا جوان مصیبت کے ماروں نے راہ  
چلتے خریدا تھا۔ بادشاہ نے معتوب وزیر سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟

وزیر نے کونڈوں کے بارے میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد  
سے لے کر لکڑہارے کی پوری داستان ساری سرگذشت بادشاہ کے رو برو پیش کر دی  
اور عرض کی جہاں پناہ حقیقت یہ ہے میری بیوی نے امام صاحب کے قول کو جھٹایا تھا  
اور کونڈے بھرنے کے عقیدے سے اظہار بیزاری کیا تھا اسی پاداش میں ہم دونوں کو  
ذلت و رسائی کا یہ روز بددیکھنا پڑا۔ ورنہ کہاں آپ کا یہ دیرینہ نمک خوارہ خادم اور  
کہاں خزانہ عامرہ سے لاکھوں کی خیانت اور غبن کا ارتکاب اور کہاں خربوزہ اور کہاں  
شہزادہ والا تبارکے دشمنوں کا سر۔ بادشاہ وزیر کی زبان سے یہ حالات سن کر بہت متاثر

ہوا۔ اس نے اسی وقت وزارتِ اعلیٰ کا منصبِ عالیٰ نئے سرے سے پھر بڑے وزیر کو سونپ دیا اور تلافیِ عمافات کے طور پر ایک خلعت فاخرہ سے بھی اسے نوازا اور چھوٹا وزیر یا اسی وقت راندہ دربار ہوا جس نے شرارت سے بڑے وزیر کے خلاف بے بنیاد لگائی۔ بھائی سے کام لیا تھا اور لاکھوں کا غبن بڑے وزیر کے ذمہ نکالا تھا۔ اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی گئی اور ہمیشہ کے لئے اس کو ذلت کے ساتھ شہر بدر کر دیا گیا۔

پھر شاہی محل سے لے کر کاشانہ، وزیر سینک بڑی دھوم دھام اور بڑے ہی شاہانہ اہتمام کے ساتھ کوئی بھرنے کی رسم ادا کی گئی اور پھر وزیر کی بیکم تو زندگی بھر بڑی عقیدت کے ساتھ ہر سال امام صاحب کے کوئی بھرتی ہی رہی۔

## داستان کا ایک تنقیدی جائزہ آدبات کو کھولیں

حقائق کو جن میں چھپایا گیا ہے  
وہ پردے نظر سے اٹھا رہا ہوں  
دیکھا آپ نے اصل دین سے ناواقف مسلمانوں کو گراہ کرنے کیلئے کتنی  
کشش اور جاذبیت ہے اس میں گھڑت کہانی میں کہ جو نے فرط عقیدت سے سرد ہے  
اور حق و باطل میں تمیز کئے بغیر برصد عقیدت کو نہ بھرنے کو تیار ہو جائے۔ لیکن یاد  
رکھئے:

صداقت چھپ نہیں سکتی بناؤت کے اصولوں سے  
کہ خوببو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے  
اب آئیے ذرا تحقیق کا چشمہ پہن کر قرآن و حدیث کی روءے سے اس میں گھڑت  
افسانے کا موازنہ کریں اور اس کا تنقیدی جائزہ لیں:

و سُوفَ تَرِيْ اَذْانَكُشَفَ الْغَبَارَ  
اَفْرَشَ تَحْتَ رِجْلَكَ اَمْ حَمَارَ  
1- داستان میں کہا گیا کہ لکڑہار اجب دلیں چھوڑ کر پر دلیں چلا گیا تو لکڑہارے  
کی بیوی نے اس وقت وزیر کی بیگم کے سامنے جا کر اپنا دکھ درد بیان کیا۔

رجیب کے کوئی دوں پر ایک نظر

قارئین! ذرا خشنڈے دماغ سے سوچئے گا یہ داستان تب کی ہے جبکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے جیسا کہ داستان کے شروع میں بیان ہوا ہے۔ اب جب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تو اس پیو قوف اور گستاخ (لکڑہارے) کی بیوی کو وزیر کی بیگم کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی۔ امام کے پاس جا کر اپنا دکھ بیان کرتی اور گشیدہ شوہر کا معلوم آرٹی کہ وہ کہاں ہے؟ تو امام صاحب اپنی کرامت سے اس کے روپوش شوہر کا پتہ بتا دیتے کہ فلاں جنگل میں اور فلاں علاقہ میں ہے اور اس کا درد اور دکھ دور کر دیتے پھر تو کوئی دوں کی زحمت نہ کرنی پڑتی اور ان کی فاتحہ کا تکلف نہ کرنا پڑتا۔ خوانخواہ اس احمد اور بے ادب (لکڑہارے کی بیوی) عورت نے وزیر کے گھر میں بارہ سال خادمه اور جھاؤ دینے کے فرائض سرانجام دیئے۔

جھوٹ کہنے سے جن کو عار نہیں

ان کی باتوں کا اعتبار نہیں

امید ہے آپ بکھر گئے ہوں گے۔

تو یہ ہے انہی تقلید۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا

کرتے۔

”اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے“

(2) افسانہ میں یہ بیان ہوا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فاتحہ کرانے اور اپنے ہی بتائے ہوئے طریقے پر خستہ پوریوں سے اپنے نام کے کوئی بھروسے کا حکم خود اپنی ہی زبان مبارک سے دیا اور گارثی اور ذمہ داری کیسا تھی یہ بھی دعویٰ کیا کہ

میں اس عمل کے ذریعہ ہر ایک کی مراد پوری ہو جانیکا ضامن ہوں اور اگر کوئندے بھرنے کے بعد کسی کی حاجت پوری نہ ہو تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لے اور مجھ سے باز پرس کرے۔

**الف:-** ذرا سوچئے اور سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کیجئے کہ کیا امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے اس قسم کی لغوبات کا صدور ہو سکتا ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی شان تو بہت اوپھی اور بہت ہی اعلیٰ وارفع ہے کوئی معمولی سمجھہ کا انسان بھی ایسی ہعویات اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا اور نہ اس قسم کا کوئی بیہودہ دعویٰ کر سکتا ہے۔

بلا سے ہماری جو چاہے کرو

اماموں کو لیکن نہ رسوا کرو

**ب:-** پھر یہ کتنی مضمکہ خیز اور حیرت انگیز بات امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنی فاتحہ کرانے کا حکم خود اپنی زبان مبارک سے دیا حالانکہ ایصالِ ثواب یا فاتحہ کسی کی بھی ہوموت یا وفات کے بعد ہی ہوا کرتی ہے تو پھر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے نام کے کوئندے بھروانے اور اپنی فاتحہ کرانے کا حکم کیسے دے دیا کاش کہ مسلمانوں کو عقل کے ناخن آ جائیں۔

عاقل کو پس اک حرف ہے تحقیق کا کافی

نادان کو کافی نہیں دفتر کا اٹالہ

(3) اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ لکڑہارے کی بیوی بارہ (12) برس تک بچوں

سمیت وزیر کی بیگم کے یہاں اپنی مصیبت بھری زندگی کے دن گذارتی رہی۔ لیکن جب اس کا شوہر بے شمار مال و دولت لے کر پرنس سے واپس گھر آیا اور اس نے وزیر کی بیگم کے محل کی نوکری چھوڑی تو وزیر کی بیگم کو یہ تک نہ بتایا کہ میرا شوہر بہت بڑے مال و خزانے کیسا تھا گھر واپس آگیا ہے۔ اس لئے اب مجھے نوکری کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ بیگم وزیر ہی نے لکڑہارن سے نوکری چھوڑنے کا سبب پوچھا!!  
یہ ہیں اندر ہے تقليد کے کارناے صرف تقليد کا لوگ چشمہ پہن کر پھر رہے ہیں انہیں سوائے تقليد کے اور کچھ نظر آتا ہی نہیں اور یاد رہے تقليد انسان کو اندرھا اور بہرا بنادیتی ہے۔

پڑھے ہیں عشق کا دفتر الف۔ ب۔ ت۔ ہم نہ سکھے  
نہ تختتی ہاتھ میں پکڑی نہ ہم چھوٹا قلم سکھے

(4) پھر یہ بات قابل عظیر ہے کہ وزیر کے محل کے پاس ہی لکڑہارے کا شاندار مکان بن کر تیار ہو جاتا ہے لیکن وزیر کی بیگم کو اس کی مطلق خبر نہیں پہنچتا اس وقت چلتا ہے جب وہ اتفاق سے اپنے محل کے بالاخانہ پر پہنچتی ہے۔

یہ تکی ان نیچرل سی خلافِ عقل بات ہے کہ ایک بڑی عمارت وزیر کے محل۔

کے پاس ہی بن کر تیار ہو جائے اور بیگم کو اس کا بالکل پتہ نہ چلے حالانکہ معمولی سے معمولی مکان کے تعیین ہونے حتی کہ لیٹرین بننے کا بھی پاس پڑوں اور اہل محلہ کے لوگوں کو علم ہو جاتا ہے اور جب کوئی بڑی عمارت تعییر ہو تو دور کے لوگ بھی اس سے واقف ہو جاتے ہیں اور عجیب بات کہ ایک باتھر روم بننے میں ہفتہ لاگ جاتا ہے لیکن محل

ایک ہی رات میں بن گیانہ کسی نے مزدور دیکھنے کی مستری کا پتہ چلا اور نہ ہی معلوم ہوا کہ محل کا سامان کہاں سے اور کیسے آیا ہے ایسا لگتا ہے کہ محل کا پورا سامان آسمان سے آیا تھا مزدور جن تھے اور مستری فرشتے تھے العیاذ باللہ۔ یا تو پھر یہ ہو گا کہ کسی دینے آ کر رات کو محل گاؤڑ دیا۔ پھر سوچنے کیا دفینہ کے ساتھ الف لیلی کے چراغ الدین کی طرح کوئی جادو کا چراغ بھی لکڑا ہارے کے ساتھ لگ گیا تھا۔ کہ جس کے ذریعے پلک مارتے ہی لکڑا ہارے کا یہ عالیشان مکان بن کر تیار ہو گیا اور روز یہ کی بنیگم کو اس کے تغیر ہونے کی بالکل خبر نہ مل سکی یا انسفی علیٰ ہذا۔ تو غور و فکر کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس افسانے میں عقل کے گھوڑے دوڑائے گئے ہیں۔

الصف ہو کس طرح کہ دل صاف ہی نہیں

دل صاف ہو کس طرح کہ الصاف ہی نہیں

(5) مزے کی بات یہ ہے کہ اس افسانے میں خربوزہ کو کیوں شامل کیا گیا ہے وہ بھی اپنے مقام پر بڑے نکتے کی بات ہے جو ایک خاص لطافت سے خالی نہیں شاید آپ کو پتہ نہ ہو آئیے ذرا ملاحظہ کیجئے اصل میں خربوزہ اور لفظ جعفر میں معنی کے اعتبار سے ایک طرح کی خصوصی مناسبت ہے لفظ کو اٹھا کر اس کے اوراق پلٹ کر دیکھنے لفظ جعفر کے جہاں اور کئی معنی ہیں وہاں عربی زبان میں خربوزہ کو بھی جعفر کہتے ہیں۔

اس افسانہ کو گھر نے والے نے کس قدر ہوشیاری سے کام لیا ہے بڑی محنت و مزدوری کی ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے الحمد بیث کھڑے ہو گئے اور کہا کہ خبردار لوگو یہ کام دونبڑ ہے اصلی نہیں نقلی ہے۔

اوروں پر معرض تھے لیکن جو آنکھ کھولی  
اپنے ہی دل کو ہم نے گنج عیوب دیکھا  
بیچارے افسانہ نگار نے اندر ہیرے میں بڑے تیر پھینکے کہ شاید تکہ لگ  
جائے اور شکار ہاتھ آجائے لیکن الہمڈیوں نے چوری پکڑ لی اور اس شکاری کو شکار  
(حاصل کرنے) سے محروم کر دیا۔ پس اس پر یہ بات صادق آتی ہے۔

نگاہ نکلی نہ دل کی چور زلف غبریں نکلی  
ادھر لا ہاتھ مٹھی کھول یہ چوری بیسیں نکلی

(6) اور یہ بات بڑی ہی حیرت انگیز ہے کہ افسانہ میں نہ بادشاہ کا نام بتایا گیا ہے اور  
نہ وزیر کا نام بادشاہ کے شہزادے اور نہ لکڑہارے کا۔

اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ الہمڈیث بڑے نکتہ دان ہوتے ہیں  
اگر ان کے نام ظاہر ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے  
کہ یہ افسانہ من گھڑت ہے دوسری بات یہ کہ اگر نام بتائیں گے تو الہمڈیث تحقیق  
کریں گے اور پھر ہماری چوری پکڑ لیں گے جب چوری پکڑی جائے گی تو یہ پھر ہمیں  
عدالت میں کافی پکڑا کر مرغد بنائیں گے اس لئے چالاکی سے کام لیتے ہوئے نام  
ظاہر نہیں کئے پس یہ کہہ دیا کہ ایک بادشاہ تھا اس کا وزیر تھا اور ایک لکڑہارا تھا تاکہ قصہ  
بھی بن جائے اور مرغ بنتے سے بھی بچا جائے جیسے مثل مشہور ہے کہ سانپ بھی مر  
جائے اور لاثھی بھی فج جائے۔ تو یہاں بھی یہی طریقہ استعمال کیا گیا ہے بہر حال  
چوری پکڑی ہی جاتی ہے۔ اس طرح دین کے چور تو بڑی آسانی سے پکڑ لئے جاتے  
ہیں۔ بہر حال:-

دام گیسو میں۔ پھنسا دل پاؤں میں زنجیر ہے  
وہ تمہارا خواب تھا یہ خواب کی تعبیر ہے

## یہ کوئڑے بھلا کس کے ہیں

اب ذرا یہ سوچئے کیا یہ کوئڑے رسول اللہ ﷺ کے ہیں یا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ہیں یا عثمان و علی رضی اللہ عنہما کے ہیں ہرگز نہیں تو بہر حال یہ جس کے بھی ہیں اس کا کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے کیونکہ شریعت اس چیز کا نام ہے جو رب کے قرآن میں ہو یا نبی کے فرمان میں ہو اور شریعت وہ ہے جس پر نبی ﷺ نے عمل کیا آپ ﷺ کے صحابہ نے عمل کیا اگر رسول اللہ ﷺ نے کوئڈوں کے بھرنے کا حکم دیا ہے یا صحابہ نے کوئڑے بھرے ہیں تو ہم بھی بھرنے کے لئے تیار ہیں لیکن جب دلیل نہیں ملتی۔ اور نہ صحابہ سے ثبوت ملتا ہے تو پھر یہ کوئڑے بھرنا دین سے محبت کی علامت نہیں بلکہ پیٹ پرستی ہے یا درکھیں دین کسی کی مرضی یا چاہت کا نام نہیں ہے بلکہ دین اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا نام ہے اور دین بڑا واضح ہے اور حق والوں کی علامت بھی بڑی واضح ہے کوئی نہ دیکھنا چاہے یا نہ سمجھنا چاہے تو کوئی کسی اندر ہے کو پینا نہیں بنا سکتا اور نہ کوئی بے عقل کو عقل دے سکتا ہے اگر کوئی دیکھتا ہو تو اس سے کہا جائے کہ سورج چڑھا ہوا ہے تو وہ دیکھ لے گا لیکن اگر کسی نے آنکھیں ہی بند کر رکھی ہوں تو چاہے سورج ہزار بار چڑھے کسی اندر ہے کو روشنی نہیں دکھائی دے سکتی۔

آنکھیں اگر بند ہوں تو پھر دن بھی رات ہے  
اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا

## اب آئیے ایک قدم آگے چلتے ہیں

جان رکھیئے! یعنی (رجب کے کوئی دل سے) سراسر بدعت ہے۔ اس کا ارتکاب جو بھی کرے گا خواہ ملاں ہو یا مفتی، پیر ہو یا مرید (اگر یہ توبہ کئے بغیر مر گئے) تو سب اللہ کے مجرم اور جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے آمین۔

یہ بات قابل محل ہے کہ رجب کے کوئی دل سے کس طرح آئے۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ دراصل یہ یہودیت اور مرزاعیت اور رافضیت کی سازش ہے۔ ان کی سازش کی وجہ سے یہ رسم اور بدعت مسلمانوں میں آچکی حالانکہ آپ پچھلے زمانہ پر نظر دوڑائیں گے اور تاریخ کے اوراق پٹیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ 1906ء سے قبل اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کا آغاز ریاست رام پور میں 1906ء سے ہوا ہے۔ ایک کہانی ”داستانِ عجیب“ کو چھپوا کر رام پور میں عام طور پر تمام مسلمانوں میں تقسیم کرایا۔ پس ”الناسُ علی دین ملوکهم“ کے تحت رام پور کے سنی مسلمانوں نے بھی اسی زمانے میں اس رسم کو اپنا شروع کر دیا تھا۔ پھر یہ رسم رام پور سے لکھنؤ پہنچی اور 1911ء تک اس کا روز افزوں ترقیات کے ساتھ پورے اودھ، روہیلکھنڈ اور دوسرے مقامات پر پھیلا شروع ہو گیا۔

تو سابقہ یاداشتیں بتاتی ہیں کہ کوئی دل سے بھرنے کے عام رواج کی ابتداء سب سے پہلے 1906ء میں ہوئی جبکہ اس سے قبل نہیں تھی۔ بہر حال کوئی دل کی رسم ایک نو ایجاد رسم اور بدعت ہے جس کا حقیقت میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تعلق

نہیں اور نہ 22۔ رجب سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے۔ حالانکہ 22۔ رجب نہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے اور نہ یوم وفات۔ ان کی ولادت 8 رمضان 17ھ یا 17 ربیع الاول 83ھ اور وفات بالاتفاق 15 شوال 148ء میں ہوئی ہے۔ اب جب رجب کی 22۔ تاریخ نہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے اور نہ وفات.....؟ تو پھر اس 22۔ رجب کا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تعلق اور پھر ان کے نام پر کیوں فاتحہ وغیرہ اس مہینہ میں ایجاد کئے گئے۔ اپنے ذہن کو ذرا میرے حوالے کیجئے اور سنئے:

## آئیے ذرا بات کو کھولیں

درحقیقت یہ یہودیوں اور شیعوں کی کرم نوازی ہے جن کے آج مسلمان شکار ہو چکے ہیں جیسا کہ تمام سنبھال جانتے ہیں کہ شیعہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دلیبغض و عنادر کہتے ہیں۔ جس طرح وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہر سال جشن عید و مسرت مناتے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قاتل فیروز کو بابا شجاع الدین کا لقب دیکر اس کے ساتھ اپنی دلی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر بھی 22۔ رجب کو خوشی مناتے ہیں۔ اور اسی جشن مسرت کے سلسلہ میں وہ شیرینی یا میٹھی خستہ پوریاں وغیرہ کر کے آپس میں کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ محض پرده پوشی کے لئے اس رسم کو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ ورنہ درحقیقت یہ تقریب اور رسم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی وثائقی منائی جاتی ہے

غور کیجئے! کس طرح مسلمانوں کے ایمان کا کونڈا اکیا جا رہا ہے ان کے عقائد کو بگاڑا جا رہا ہے زہر کی لولی چینی میں پیٹ کر کھلائی جا رہی ہے لیکن سنی مسلمانوں کی آنکھیں نہیں، وہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور کونڈے بھرنے اور نذر نیاز کرنے میں خوش ہیں۔

دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا

سراسرِ موم ہو یا سنگ ہو جا

تو پھر آخري یہ کیوں اے سنی مسلمانوں میری بات کو ذہن نشین کر لو اور اس کو اپنے پلے سے باندھ لو یہ یہودیت اور شیعیت کی سازش ہے انہوں نے سوچا کیوں نہ ایک ہی پتھر سے دو شکار کئے جائیں۔

(1) ایک تو یہ کہ ان کے عقیدے کو فاسد کرنے کے لئے ان کو نذر نیاز کے پیچھے لگادیا جائے جب عقیدہ ہی فاسد ہو جائے تو باقی کچھ کیا رہ جائے گا اس کی مثال یوں سمجھئے ”نہ ہے بانس نہ بجے بانسری“۔

(2) دوسرا یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر غم کی بجائے انہیں خوشی اور مسرت کا کوئی کھلونا دے دیا جائے اور کھیر اور حلوہ پکانے کے پیچھے لگا دیا جائے کس طرح ہمارے ایمان کا کباڑہ بنایا جا رہا ہے لیکن اندھی تقلید نے ہماری نانگوں کو توڑ کر رکھ دیا ہے اور فرقہ آرائی کے تعصب نے ہمیں بے بس اور بے کس کر کے رکھ دیا ہے فرقہ آرائی کے تعصب کا زہر سیکڑوں انسانوں کی جان لے چکا ہے اور یہ لعنت بہت ہی بڑھ چکی ہے اس وباء سے اپنے آپ کو محفوظ کیجئے اور اس بیماری سے بچئے کیوں کہ

شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے شر اس کا  
یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو  
بہر حال آگے چلنے شروع شروع میں تو کافی عرصہ تک یہ رسم دبی دبی  
شیعوں کے حلقہ تک محدود رہی لیکن پھر شیعوں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی خوبصورت  
فریب اور تلقیہ سے کام لے کر سنیوں کو بھی وفاتِ معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلہ کے اس  
جشن مسرت میں غیر شعوری طور پر شریک کر لیا جائے چنانچہ انہوں نے سنیوں کے  
ساتھ ایک عجیب گیم کھیلی جو کہ اور پر بیان ہو چکی ہے۔ (یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی  
وفات پر پرده ڈال کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی دل کا فرضی افسانہ گھڑا)۔

جس پراندھی تقليید کے فاعل اور توہم پرست سُنی مسلم عوام نے اس کہانی کو  
پڑھایا تو ”صد قتے جاوائ“ کے تحت وہ غیر شعوری طور پر فرط عقیدت سے اس  
جھوٹی کہانی پر ايمان لے آئے تبجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی عرصہ میں اس فرضی داستان کے  
سبب بہت سے دین سے ناقف سنی عوام نے بھی غیر شعوری طور پر سیدنا معاویہ رضی  
اللہ عنہ کی تاریخ وفات 22 رجب کو شیعوں کی طرح اپنے یہاں بھی ایک خوشی کا دن  
قرار دیا چنانچہ آگے چل کر اب اکثر سنی مسلم (جو حقیقت حال سے بے خبر ہیں)  
22 رجب کو عید جیسی خوشی مناتے ہیں اور اس دن بچوں کو بڑے چاؤ کے ساتھ نہلا  
ذھلا کرنے نئے کپڑے وغیرہ پہناتے ہیں اور پھر اہتمام یہ ہے کہ عورتیں غسل اور  
وضوء سے آراستہ ہو کر پوری پکانا شروع کرتی ہیں اب ان باتوں کا چرچا عورتوں تک  
محدود نہیں رہا بلکہ ان کے شوہر بھی اس بارے میں ان کے ہم خیال بن چکے ہیں کوئی

لڑ کے کی حیات کے لئے کونڈے کرتا ہے تو کوئی کسی منت کیلئے؟ ان کے متعلق کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ

### یہ امت روایات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو گئی

طریقہ فاتحہ کے ضمن میں ایک کتاب تصنیف ہے یعنی 22 رجب کو نماز فجر کے بعد پوریاں کونڈوں میں رکھ کر فاتحہ ہوتی ہے اور وہ کتاب پڑھی جاتی ہے جس میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ 22 رجب کو کونڈے کرو اور میرے توسل سے مراد طلب کرو اور جو مراد پوری نہ ہو تو قیامت کے دن تمہارا ہاتھ اور میرا دامن ہوگا۔

22 رجب کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں شیعوں کے یہاں خفیہ خفیہ جشن سرتمنایا جاتا تھا اور اس سلسلہ میں شیرینی اور پوریوں وغیرہ کو عام تقسیم سے بچا کر کسی مخصوص مقام پر ہی بٹھا کر کھلایا جاتا تاکہ محروم کے تبرأ کی طرح سنیوں کو اس کا پتہ نہ چلے یہی وجہ ہے کہ اب تک کونڈوں کی پوریوں کو اپنے مخصوص مقام سے باہر نہیں نکالا جاتا بلکہ کسی خاص (پردہ والی) جگہ پر ہی بٹھا کر کھلایا جاتا ہے عزیز و اقارب کو گھر میں بلا کر کھلائی جاتی ہیں لیکن باہر نکلنے نہیں پاتیں اور یہ فاتحہ ہر ایک گھر میں نہایت عقیدت مندی کے ساتھ ہوتی ہے یہ رسم برابر بڑھتی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کے یہاں جو ق در جو ق مثل مجلس طلبی بھرتی ہوتی جا رہی ہے اہل تشیع کی طرح اب سنیوں کے گھر میں فاتحہ اور کونڈوں کا زور و شور ہو چکا ہے اور بڑی دھوم دھام

کیسا تھے سنیوں کے گھر میں یہ بدعت ہو رہی ہے لیکن کبھی سنیوں نے غور نہیں کیا۔ پس میٹھی میٹھی چیزیں کھا کر سُن ہو جاتے ہیں نتیجہ یہ نکلا ہے آج شیعہ اور یہودی ان کے عقیدے پر ناج رہے ہیں لیکن ان کی آنکھیں ہللتیں پس کیا کہیں۔

قابل جرم ہے اس دور میں چپ رہنا بھی  
اور کچھ کہیئے زبان سے تو گلا ہوتا ہے

بہر حال یہ کوئندے نے نوایجاد رسم اور بدعت ہے جس کا حقیقی طور پر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اس دن ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسی عظیم الشان ہستی کی وفات ہوئی ہے جن کی وفات پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دیگر مسلمانوں پر غم کے پھاڑٹوٹ پڑے۔ اور جن کی وفات کی خبر سن کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ چکے تھے لیکن جب اس شخصیت کی وفات کی خبران کے کانوں تک پہنچتی ہے تو دسترخوان اٹھا دینے کا حکم دیتے ہیں اور بغیر کھانا کھائے دسترخوان سے اٹھ پڑتے ہیں اور جن کی وفات پر امت اپنے آپ کو یتیم سمجھنے لگی وہ شخصیت کون تھی وہ امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں جو جلیل القدر صحابی اور امین اور کاتب وحی تھے۔ اس کی وفات کا خیال کر کے چودہ سو برس کے بعد ایک مومن (کھلوانے والے) کامنہ کڑوا ہو جاتا ہے پھر وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا بہانہ بنایا کر کوئندوں کی شکل میں نیاز اور شیرینیاں وغیرہ پکا کر اپنے منہ کے کڑوے مزے کو میٹھا بناتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں شیعہ حضرات کو ہمیشہ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے گھرا بغرض و عناد ہے اس لئے ان کی وفات ہی کی خوشی میں

رجب کے کوئی پر ایک نظر  
جشن مسرت منایا کرتے ہیں لیکن سنی مسلمانوں کیلئے یہ بات کسی طرح بھی زیبا نہیں  
کہ وہ شیعوں کے جھانے میں آ کر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ کو  
شیعوں کے مسلک کی تقلید کرتے ہوئے اپنے یہاں بھی عید جیسی خوشی منائیں۔

یہاں پر ہے جو کچھ کہ میں نے لکھا  
کریں اس پر انصافِ مومنِ ذرا

قد تبین الرشد من الغی . (البقرة: 256)  
تحقیقِ حدایت واضح ہو چکی ہے گراہی سے۔

قد ظهرت فلا يخفى على احد  
الاعلى احد لا يعرف القمر

(لمحة فکریہ)

معزز قارئین: جب اللہ کے رسول ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین  
سے اس امر کا ثبوت نہیں ملتا تو پھر ہمیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ دین اسلام میں اس  
طرح کے نئے نئے کام ایجاد کریں یاد رکھئے کوئیوں کے بھرنے میں رسول اللہ ﷺ  
کی کھلی خلافِ درزی ہے یہ نیکی نہیں بلکہ گناہ ہے جاہل لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے  
ایمان کی دولت کو ضائع نہ کریں بلکہ اس راہ کو اپنائیے جو سنت کی راہ کھلاتی ہے باقی  
تمام راہوں کو چھوڑ دیجئے۔

نقشِ قدمِ نبی کے ہیں جنت کے راستے  
اللہ سے ملتے ہیں سنت کے راستے

اللہ کے واسطے اپنی آنکھیں کھولنے ہوش کیجئے اور حق کی تلاش کیلئے جستجو کیجئے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو کنویں کا مینڈک نہیں بنایا کہ ہر پھر کے ایک ہی دائرہ میں چکر لگاتار ہے اور پھر وہ ہیں جیسے کرم رجاء۔

ہر پھر کے دائرہ میں ہی رکھتا ہوں میں قدم

آئی کہاں سے گردش پر کار پاؤں میں

**بھائیو:** - تقلید کے محدود کنویں سے نکل کر اس وسیع سمندر کا جائزہ لیجئے جیسے قدرت نے آپ کی شناوری کیلئے وجود بخش رکھا ہے اپنی صلاحیتوں سے اپنے ماحول کی گھنٹن کو عالمگیر اسلامی فکری انقلاب سے آشنا کریں دوسروں کی فکر کا محتاج ہن کر رہ جانے کے بجائے دوسروں کی فکر میں تبدیلی پیدا کیجئے۔

اللہ تعالیٰ نے مومن کو عالمگیر شناوری کی صلاحیتوں سے نوازا ہے؛ اس نے تو محض انسان کو بھی احسن تقویم کے شرف سے نواز رکھا ہے اور مومن کا مقام تو بہت ہی بلند ہے۔

**پرے ہے پر غ نیلی فام کے منزل مسلمان کی عزیزانِ من:** - تقلید کی اندھیاری نے آپ کے مقام کو آپ کی نگاہوں سے اوچھل کر دیا ہے ذرا کروٹ بدلتے اس ذہنی مرعوبیت کے حصار سے باہر نکلنے اپنے آپ میں سنبھلئے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیجئے اپنی قوت کا اندازہ لیجئے اور تقلید کی رسی کو اپنے گلے سے اتار پھینکئے کہ آپ اس لاکن نہیں ہیں اس نے آپ کی سوچ کو بہت سکیڑ دیا ہے آپ کی قوت کو محدود کر دیا ہے آپ کی صلاحیتوں کو زنگ خورده بنادیا ہے جبکہ

مومن تو ہر اعتبار سے ہی بے حد و دلہے۔

اک کھیل ہے اور نگ سلیمان میرے نزدیک  
اک بات ہے اعجاز مسیح مرے آگے  
یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ آپ جو اس بات پر مأمور تھے کہ اللہ اور اس کی  
خدائی کی معرفت حاصل کریں آپ خود اپنے آپ کو پہچان نہ سکے آپ نے ایک شخص  
کے کہنے پر اپنے آپ کو جاہل اور عقل سے دستبردار ہو کر رہنا تو منظور کر لیا علم سے من  
موڑ لیا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے الگ ہو گئے۔

تحقیق سے روشنی پہلیتی ہے جب کہ تقلید سے انہیں پہلیتے ہیں  
آہ عزیزو: اگر آپ کبھی دوسروں سے اپنا تقابلی جائزہ کا موقع پائیں تو آپ یہ دیکھ  
کر حیراں رہ جائیں گے کہ امریکہ اور روسی کافروں نے جب ایوان علم و تحقیق کی دیوار  
پر اپنی جدوجہد کی کمنڈ پھینکی تو انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے فضاؤں کو مکوم اور خلاوں کو  
محض کرد الامر آپ جن کو اللہ تعالیٰ نے قوموں کی امانت سونپی تھی اور جن کو نوع انسانی  
کے لئے معلم بنا کر مبعوث کیا تھا آپ نے کسی بزرگ کو بہانہ بنا کر خود اپنے سے بھی  
دستبرداری دے دی۔

نکتہ دین سمجھ میں آ تو سکتا ہے  
تیرا دماغ ہی تقلید خانہ ہو تو کیا کہیے  
کبھی کان رکھو تو آپ کو قرآن پاک کے صفحوں کے اندر سے یہ آواز سنائی  
دے گی ((کہ افلا تعقلوں)) تم عقل سے کیوں کام نہیں لیتے۔

((ا فلا تتفکرون)) تم کیوں سمجھتے سوچتے نہیں مگر آپ ہیں کہ مومن ہو کر بھی غور و فکر اور عقل اور شعور کی دولت سے دامن بچا کر نکل جانا چاہتے ہیں اور ایک غیر نبی اور امتنی کے قول پر بھی غور و فکر نہ کرنے پر انگوٹھا لگا رکھا ہے باللعجب۔

اب ہم اپنے اس بے زبان مقلد بھائی سے کیا پوچھیں اور کیوں کر پوچھیں جس کی زبان پر مہر لگا دی گئی ہے جس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے جس کے کانوں میں روئی ٹھوںس دی گئی ہے جس کی سوچ پر پھرے بیٹھے ہیں جس پر عقل کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں جس پر غور و فکر کی کھڑکیاں لاک کر دی گئیں ہیں اور جس سے اس کا علم اور شعور بزور پھیلن لئے گئے ہیں اور پھر اسے بھی اپنی اس بدحالی پر نہ کوئی افسوس ہے اور نہ اعتراف ..... ہم اس سے کیوں کر پوچھیں کہ بھائی

### کس حال میں ہیں یارانِ وطن

اس حال میں ہم اپنے بھائی سے صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ  
اپنی خودی پہچان۔ او غافل انسان

میرے مقلد بھائیو:۔ آپ جس جگہ کھڑے ہیں یہ کسی مومن کا مقام نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مومن کو جاہل بن کر رہنے اور بے عقل بن کر جینے کیلئے پیدا نہیں کیا اس نے اسے علم دیا ہے کہ اس سے کام لے عقل دی ہے کہ اس کو استعمال کرے شعور دیا ہے کہ بات کی گریں کھولے اللہ نے اس کو یہ نعمتیں اس لئے نہیں دیں تھیں وہ ان کو فروخت کر ڈالے یا کسی کے پاس گروی رکھ دے۔ اگر ہمارے مقلد بھائی اپنی رواجی عقیدت سے الگ رہ کر چند لمحوں کے لئے ہماری گذارشات کو غور و فکر کا مرکز

بنا کیس تو ہمارا یقین ہے کہ وہ بہت جلد اس حقیقت کو جان لیں گے ان شاء اللہ۔

### مسلمک اہل حدیث

ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بات ختم کرنے سے قبل اپنے مسلک کا مختصر سا تعارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں واضح ہو کہ الحدیث کے مسلک کی بنیاد رسول اللہ ﷺ کی ایک نہایت اہم وصیت پر استوار ہوئی ہے جو آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حجۃ الوداع کے موقعے پر اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کی مجلس میں ارشاد فرمائی فرمایا کہ

ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تم سکتم بهما کتاب الله

وسنة نبیه (المؤطا نلامام مالک بن انس کتاب القدر۔ باب النہی عن

القول بالقدر، ۲۸۵، المستدرک للامام حاکم ج ۱ ص ۹۳)

میں اپنے بعد تھارے لئے دو چیزوں چھوڑ کر چلا ہوں تم جب تک ان دونوں چیزوں سے (مضبوطی کے ساتھ) چمنے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے ان دو چیزوں میں سے ایک اللہ پاک کی کتاب (قرآن مجید) ہے اور دوسری چیز میری سنت ہے میرا طریقہ ہے۔

عزیزان گرامی قدر:- الحدیث کا مسلک بس یہی کچھ ہے ان کی مساعی اور ان کی ساری جدوجہد کا محور یہی دو چیزوں ہیں ان کی زندگی کے لیل و نہار کی ساری گردشیں ان کی جہد و سعی کے سارے پہلوان کی سانس کا ہر ہر نفحہ۔ ان کی سوچ کا ہر ہر رخ اور ان کی حیات کی ہر کروٹ انہی دونوں چیزوں کے زانع ہے۔ اپنے مسلک کے

مصطفیٰ سے ہم کو ورثے سے ملی ہیں دو کتاب  
ایک کلام اللہ دویم آپ کا فصل الخطاب  
الہدیث کی تعریف یہ ہے کہ وہ قرآن کا علمبردار ہے جس ذات نے  
قرآن کو نازل کیا وہ اس کا پرستار ہے اور جس ذات گرامی پر قرآن اترادہ اس کا  
فرمانبردار اور اطاعت گزار ہے پس وہ یہی کچھ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کسی کا نہیں  
اور کسی کے لئے نہیں اس کی زندگی انہی دونوں فاٹے کے لئے وقف ہے انہی کے لئے اس کا  
جینا اور انہی کے لئے اس کا مرنا ہے۔

الہدیث کے اس مسلک کو شاعر نے بڑی خوبی سے صرف دو مصروعوں میں

سمیٹ لیا ہے کہ

اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن  
پس حدیث مصطفیٰ بر جاں مسلم داشتن

جو بھائی الہدیث نہیں ہیں میں ان سے پوچھنا چاہوں گا۔ یا آپ کو الہدیث کے اس  
نصب العین کی صحت سے انکار ہے؟ کوئی اختلاف ہے اور کیا آپ کے اہل غرض نے  
کبھی آپ کی اطلاع میں یہ بات دی ہے کہ الہدیث کیا چاہتے ہیں کبھی آپ کے علم  
میں آیا ہے کہ الہدیث کا نصب العین صرف کتاب و سنت کو غالب کرنا اور ان کو نافذ  
کرنا ہی ہے اس بات سے کسی کو بھی انکار نہیں یا کوئی بھی انکار کی جرأت نہیں کر سکتا کہ  
اسلام انہی دو چیزوں کا نام ہے ان سے باہر جو کچھ بھی ہے اچھا بھی ہو سکتا ہے بہت ہی

رجب کے کوئی دل پر ایک نظر  
اچھا بھی ہو سکتا ہے نہایت اچھا بھی ہو سکتا ہے مگر اسے اسلام نہیں کہہ سکتے اسلام صرف  
یہی دو چیزیں ہیں اور اہل حدیث کا یہی عقیدہ ہے یہی نصب العین اور یہی ان کا مسلک  
ہے۔

بس شگ نہ کر ناصح ناداں مجھے اتنا  
یا چل کے دکھا دے وہن ایسا کمر ایسی  
اہل حدیث اپنے اس مسلک کی روشنی میں قرآن و سنت کے بعد کسی کی اطاعت کے قائل  
نہیں ہیں وہ سب اچھے اور نیک شہرت رکھنے والے بزرگ کی تکریم روا رکھتے ہیں ان کا  
احترام ملحوظ رکھتے ہیں ان کے نام کو سن کر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مگر وہ ان کی بات وہی  
مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے ترازوں میں پوری اترتی ہو جو بات قرآن و سنت کی تکڑی  
میں نہیں تلتی وہ خواہ کسی کی بھی ہوا اہل حدیث اس کو مسترد کر دیتے ہیں اہل حدیث کے  
نزویک اطاعت صرف اللہ اور اسکے رسول ﷺ کی ہی واجب ہے ان کے علاوہ وہ  
کسی دوسرے کی اطاعت ہرگز واجب نہیں سمجھتے کہ

بابا کے یہاں سے کون لایا  
جس نے پایا یہیں سے پایا

اپنے مسلک کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ہم یا امیر رکھتے ہیں کہ  
اگر آپ نے اپنے مسلک کے ساتھ مسلک اہل حدیث کے تقابلی جائزہ کی زحمت گوارا  
کی تو آپ کو صحیح نتیجہ تک پہنچ سکنے میں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آ سکے گی ان شاء اللہ۔

مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو  
اُدھر فرمان محمد ﷺ ہو اُدھر گردن جھکائی ہو

حرف آخر:- اب قارئین پر رجب کے کونڈوں کی حقیقت واضح ہو چکی ہو گی ایسی صورت میں ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی بد عادات و خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے کتاب و سنت صحیحہ کی شاہراہ کو اختیار کرے اور اللہ کے دوسرا نے بندوں کو اس شاہراہ پر چلانے کی فکر کرے۔

اور علماء امت اور دینی تحریکوں کے ذمہ داروں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے افکار و نظریات پیش کرنے کے بجائے اللہ کے اس دین کو پیش کریں جو رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پیش کیا تھا اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے لوگوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا تھا اور اس سلسلہ میں مصلحت پرستی کا طریقہ انتہائی مہلک و خطرناک ہے یہ یہود و نصاریٰ کے علماء و مشائخ کی روشن تھی کہ وہ مصلحت پرستی کے پیش نظر دین کی کچھ باتیں بتاتے تھے اور اکثر چھپا لیتے تھے اور کلام الہی میں تحریف و تبدیلی سے بھی کام لیتے تھے۔

اور حکام کا یہ فریضہ ہے کہ وہ دینی تعلیم کو عام کریں دینی اداروں تربیت گاہوں میں مخلص علماء حق کو مقرر کریں اور بد عادات و خرافات کی بخش کنی کے پیچھے لگ جائیں ورنہ علماء و حکام یہ دونوں ہی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ بہر حال

اگرچہ ہے رسموں کا قصہ طویل  
ولیکن میں نے کیا ہے اس کو قلیل  
دعا ہے یہ صادقؑ کی اے اللہ  
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رستے پر ہم کو چلا

کیا اس کتاب کو میں نے تمام  
اللہ کو بجود و نبی ﷺ پر سلام  
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسم و رواج سے ہٹا کر قرآن و سنت کی راہ پر  
چلنا نصیب فرمائے اور شرک سے بچا کر خالص ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور  
متلاشیاں حق کے لئے ہماری اس حقیر سی کوشش کو قبول فرمائے اور راہ بھولے بھائیوں  
کو راہ حق پر جمع فرمائے۔ آمین۔

اللهم ارنا الحق حقاً ورزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلًا ورزقنا اجتنابه  
امین یارب العالمین ان اريد الاصلاح ما استطعت و اخر دعوا ان

الحمد رب العالمين

وكتبه ابو جنید محمد صادق خليل (مری)

خطیب و امام جامع مسجد الحدیث الراشدی  
موئی لین لیاری کراچی